

آگ سے حفاظت اور انخلا

آگ لگ جانے کے دوران انخلاء کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟

- لمبی بازو والی قمیض اور لمبی پتلون پہنیں
- اگر آپ کے پاس پالتو جانور موجود ہے تو انہیں اپنے قریب رکھیں
- اگر اہلکار آپ کو علاقہ چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں تو ان کی ہدایات پر عمل کریں
- علاقے سے باہر کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ انخلا کے دوران رہ سکتے ہیں
 - خاندان والوں اور دوستوں سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ کو پناہ دے سکتے ہیں؟
 - انخلاء کی پناہ گاہوں کی ج جگہوں کی فہرست کے لئے ویب سائٹ 211NORCAL.ORG کا استعمال کریں



انخلا کے دوران کیا چیزیں اکٹھی کرنا چاہیں؟

- کھانا
- پانی
- کپڑے
- دوائیں
- عینک
- شناختی کارڈ
- اہم دستاویزات
- سیل فون اور چارجر
- بیٹری سے چلنے والے ریڈیو اور بیٹریاں
- ٹارچ
- پیسہ
- ابتدائی طبی مدد کا بکس
- اہم چابیاں
- اگر وقت کی اجازت ہو تو قیمتی اور ناقابل جگہ اشیاء

بہت زیادہ دھوئیں میں سانس لینے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟

- اندرونی جگہوں میں آلودگی بڑھانے والی سرگرمیوں سے گریز کریں
- کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں
- گاڑیوں میں ہوا کو دوبارہ استعمال کرنے والے بٹن کو استعمال کریں
- سانس لینے والوں کی فراہمی N95 کریں اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں
- چمنی یا لکڑی جلانے والے چولہے میں موم بتیاں اور آگ نہ جلائیں
- پر ہوا کے WWW.AIRNOW.GOV معیار کی مقامی اطلاع کو دیکھیں اور دھواں دار علاقوں سے جانے سے گریز کریں